



میرے بھائی داؤد علیہ السلام کے روزے - آدھے سال کے روزے - سب سے زیادہ روزے جائز نہیں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرے

عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ تک میری یہ بات پہنچائی گئی کہ اللہ کی قسم! میں زندگی بھر دن میں روزے رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا، لہذا آپ ﷺ نے کہا: تم یہی کرو، جو شخص جس نے یہ بات کہی ہے؟، میں نے آپ ﷺ کو جواب دیتے ہوئے کہا: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہاں میں نے یہ کہا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: لیکن تیرے اندر اس کی طاقت نہیں، اس لیے روزہ بھی رکھ اور افطار بھی کرے رات کو قیام بھی کر اور سو بھی جا اور مہینے میں تین دن کے روزے رکھا کر؛ کیونکہ نیکیوں کا بدلہ دس گنا ملتا ہے اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا میں نے کہا کہ: میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: پھر ایک دن روزہ رکھا کر اور دو دن کے لیے روزہ چھوڑ دیا کرے میں نے پھر کہا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: اچھا، ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن افطار کر کہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ایسا ہی تھا اور روزہ کا یہ سب سے افضل طریقہ ہے میں نے اب بھی وہی کہا کہ میرے پاس اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے، لیکن اس مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: داؤد علیہ السلام کے روزے - آدھے سال کے روزے رکھنا سب سے زیادہ روزے جائز نہیں ایک دن کا روزہ رکھ اور ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا کرے

[صحیح] [متفق علیہ]

نبی ﷺ کو یہ اطلاع پہنچائی گئی کہ عبداللہ بن عمرو و رضی اللہ عنہما نے اس بات کی قسم کھائی ہے کہ وہ ہمیشہ روزے سے رہیں گے؛ کبھی بے روزہ نہ رہیں گے اور ہمیشہ قیام اللیل ہی کریں گے؛ کبھی نہیں سوئیں گے چنانچہ آپ ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا: کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ عمل تمہارے لیے باعث مشقت ہو جائے گا اور تم اس کو برداشت نہ کر سکو گے آپ ﷺ نے انہیں آرام اور عبادت دونوں ہی کو اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی کہ روزے بھی رکھیں اور نہ بھی رکھیں، قیام اللیل بھی کریں اور سوئیں بھی اور ہر ماہ تین روزے ہی رکھیں؛ تاکہ انہیں سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب حاصل ہو جائے لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ آپ ﷺ سے مزید روزوں کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ روزہ رکھنے کے افضل ترین طریقہ پر یہ بات موقوف ہو گئی روزہ رکھنے کا افضل ترین طریقہ داؤد علیہ السلام کا تھا؛ کیوں کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن کا روزہ چھوڑ دیتے تھے تاہم خیر و بھلائی کی شدید خواہش کی بنا پر صحابی رسول ﷺ نے مزید روزوں کی درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس سے افضل کوئی روزہ نہیں ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

